

آپ اپنا امتحان لیجئے

سید عاصم محمود

ایک انسان زندگی گزارتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور بعد میں وہ اس کی وجہ بھی گھڑ لیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جلدی میں تھا یا غصے میں آگیا، یا میں پریشان تھا اسی لیے بد اخلاق بن بیٹھا۔ اس لیے ہر انسان کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاقی برائی کس حد سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خود کو اس حد تک پہنچنے نہ دے۔

ذیل میں چھوٹا سا امتحان پیش ہے۔ اسے انجام دے کر جانے کہ اخلاق حسنہ اختیار کرنے اور برتنے میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اپنی آپشن پر کوئی نشان مارک کرتے جائیں تاکہ آخر میں موجود نتائج کے ساتھ جانچ سکیں۔

سوال 1:- آپ کی اپنے دوست کی دادی یا نانی سے ملاقات ہوئی۔ آپ انہیں کیسے مخاطب کریں گے؟

(ا) آنٹی، نانی جان یا اماں جی کہہ کر۔

(ب) بس ہاتھ ملا کر ایک طرف ہو جائیں گے۔

(ج) جیسا کہ آپ ہر نئے ملاقاتی سے پوچھتے ہیں، نانی سے بھی پوچھیں گے: ”آپ فیس بک پر ہیں؟“

سوال 2:- ایک انسان کا دوسرے سے عام طور پر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جسے ”ذاتی دائرے“ کا نام دیا جاسکے؟

(ا) اٹھارہ انچ آئیڈیل ہے مگر کم از کم ایک فٹ۔

(ب) تین فٹ۔

(ج) میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ کوئی میرے سر پہ جھکا یہ سوال پڑھ رہا ہے۔

سوال 3:- جب کوئی مسلسل پانچ منٹ بولتا چلا جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟

(ا) اس کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کریں گے۔

(ب) گفتگو سنتے رہیں گے مگر بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے جیسے دباؤ کا شکار ہوں۔

(ج) اسے کہیں گے کہ ارے خاموش ہو جاؤ، میں کسی کی اتنی لمبی باتیں نہیں سن سکتا۔

سوال 4:- ہوائی اڈے پر لگی قطار میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کی گود میں رونے والا بچہ ہے اور

اس نے بیگ میں سنبھال رکھا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟

(ا) خاتون کا بیگ تھام کر اس کی مدد کریں گے۔

(ب) یہ منظر خاموشی سے دیکھتے رہیں گے کہ عورت بچے اور بیگ کو سنبھالتے ہوئے مشکل میں ہے۔

اپنی اخلاقیات کا امتحان لیں - کلب موٹیویشن

(ج) عورت کی حالت دیکھ کر ناک بھوں چڑھائیں گے اور دوسرے لوگوں کو اشارے سے کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آگئی۔

سوال 5:- ”شکریہ“ اور ”برائے مہربانی“ کے کلمے کیا پتا دیتے ہیں؟

- (ا) یہ ایک مہذب معاشرے کی جان ہیں۔
- (ب) ان کے ذریعے اجنبیوں سے مختصر بات چیت کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- (ج) فضول جملے ہیں جن سے صرف پرائمری کی استانی ہی متاثر ہو سکتی ہے۔

سوال 6:- پڑوسیوں اور دفتر کے عملے وغیرہ سے ملتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں کو کیا کہنے کی ہدایت دے رکھی ہے؟

- (ا) انہیں سلام کریں اور خیریت دریافت کریں۔
- (ب) اگر وہ سامنے سے گزریں تو سلام کریں۔
- (ج) انہیں نظر انداز کر دینا۔ بچوں کو بڑوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟

سوال 7:- جب آپ کسی شاپنگ مال میں داخل ہونے لگیں اور وہاں بہت ہجوم ہو، تو دروازے پر آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟

- (ا) آپ دروازہ تھام لیں گے تاکہ پیچھے آنے والا بھی اسے تھام کر گزر جائے۔

اپنی اخلاقیات کا امتحان لیں - کلب موٹیویشن

(ب) دروازہ یہ سوچ کر پوری طرح کھول دیں گے کہ پچھلا آدمی اسے پکڑ لے گا۔

(ج) بے پروائی سے دروازہ کھولتے گزر جائیں گے۔ دروازہ تھام کر رکھنا آپ کا کام تو نہیں!

سوال 8:- کھانے کی میز پر مہمان بیٹھے ہیں۔ سب کھانا کھا رہے ہیں۔ تب آپ کا موبائل کس حالت میں ہوگا؟

(ا) آپ اسے بند کر چکے۔

(ب) وہ سائلنٹ موڈ میں ہوگا مگر آپ نے اسے قریب ترین جیب میں رکھا ہے۔

(ج) آپ ہر دو تین منٹ بعد اسے چیک کریں گے، خصوصاً جب کوئی بات کر رہا ہو۔

سوال 9:- آپ طویل عرصے بعد ایسے دوست سے ملے جو فریبہ ہو چکا۔ تب آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟

(ا) آپ کہیں گے کہ وہ بڑا صحت مند ہو چکا اور پھر دیگر موضوعات پر گفتگو کرنے لگیں گے۔

(ب) اس کی جسمانی حالت پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔

(ج) اس کا پیٹ پکڑ کر دوست کا مذاق اڑانے لگیں گے۔ اس کی تضحیک کریں گے۔

سوال 10:- آپ ایک ساتھی کے ساتھ اہم دفتری معاملے پر بات کر رہے ہیں کہ لفٹ میں داخل

ہو گئے۔ اب آپ کا عمل کیسا ہوگا؟

(ا) لفٹ میں داخل ہو کر خاموش ہو جائیں گے۔ لفٹ سے نکل کر بات کریں گے۔

اپنی اخلاقیات کا امتحان لیں - کلب موٹویشن

(ب) سرگوشیوں میں اور ”کوڈ ورڈ“ استعمال کرتے ہوئے بات جاری رکھیں گے۔

(ج) بدستور اونچی آواز میں باتیں کرتے رہیں گے۔

سوال 11:- آپ کو شدید کھانسی آرہی ہے۔ اس کیفیت میں آپ کو خریداری کرنے بازار جانا پڑا۔ آپ تب کیسی تیاری کریں گے؟

(ا) رومال، ٹشو پیپر اور دوا آپ کے ساتھ ہوگی۔

(ب) آپ کوشش کریں گے کہ جب کھانسی آئے، تو کسی سنسان مقام پر چلے جائیں۔

(ج) جب بھی کھانسی آئے، آپ بے پروا انداز میں کھانسنے لگیں گے، چاہے گاہکوں سے بھری دکان میں موجود ہوں۔

سوال 12:- آپ اپنے شرارتی بچوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ آپ بچوں کو کیا ہدایات دیں گے؟

(ا) یہ کہ وہ تمیز سے اپنی کرسیوں پر بیٹھیں۔ کھانے کی ہر شے انہیں مل جائے گی۔

(ب) آپ بچوں کو کسی ریسٹورنٹ میں ساتھ لے کر نہیں جاتے البتہ برگر کھلانے میکڈونلڈ وغیرہ لے جاتے ہیں جہاں بچوں کے کھیلنے کی جگہیں موجود ہیں۔

(ج) آپ بچوں کو کچھ نہیں کہتے اور وہ ریسٹورنٹ میں اچھل کود کرتے رہتے ہیں۔ آخر وہ بچے ہی تو ہیں!

اپنی اخلاقیات کا امتحان لیں - کلب موٹیویشن

سوال 13:- آپ نے انٹرنیٹ پر ایسا مضمون پڑھا جو آپ کے خیالات و اعتقادات کے خلاف ہے۔ آپ

اس کا ضرور جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ کیا طریق کار اختیار کریں گے؟

(ا) دلائل کے ذریعے اختلافی امور پر جامع نوٹ لکھ کر جواب دیں گے۔

(ب) جذبات سے بھرا جواب لکھیں گے اور اس طویل مضمون کا لنک ساتھ دیں گے جسے آپ نے

گھنٹوں کی مشقت سے لکھا ہے۔

(ج) آپ تمام مکنٹس (تبصرے) پڑھیں گے اور جس نے تحریر سے اتفاق کیا ہے، اسے دھمکیاں دیں

گے۔

سوال 14:- آپ بس میں بیٹھے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی سوار ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟

(ا) اٹھ کر خاموشی سے اپنی نشست پیش کر دیں گے۔

(ب) اٹھ کر با آواز بلند اصرار کریں گے کہ وہ آپ کی نشست پر بیٹھ جائے۔

(ج) بوڑھے سے آنکھ نہیں ملائیں گے کہ کہیں وہ آپ کو اٹھنے کا کہہ دے۔

نتائج اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

نتائج

☆... اگر زیادہ تر جوابات الف (ا) پر مشتمل ہیں۔۔۔

تو آپ ایک مہذب اور بااخلاق انسان ہیں۔ آپ رحم دلی اور ہمدردی کی اہمیت جانتے ہیں۔ آپ صورتحال کے مطابق رد عمل دکھاتے اور برائی سے حتی الامکان دور رہتے ہیں۔ آپ کی شخصیت مثالی ہے۔

☆... آپ کے زیادہ تر جوابات (ب) والے ہیں۔۔۔

تو آپ اخلاق حسنہ کی قدر و قیمت سے تو واقف ہیں مگر آپ میں خود نمائی کا بھی جذبہ ہے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش میں کبھی کبھی دوسروں کے تکلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ جلد بازی نہ دکھائیے اور سکون سے کام لیجیے۔

☆... اگر آپ کے بیشتر جواب (ج) زمرے میں شامل ہیں۔۔۔

تو مطلب یہ کہ آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ایسی غار میں مقیم ہیں جہاں معاشرتی ادب و آداب آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیے اور دوسرے لوگوں کو سہولت و آرام پہنچانے کا بھی سوچیے۔

اگر آپ ایسی مفید معلومات اور رہنمائی مستقبل میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا واٹس ایپ نمبر ہمارے ریکارڈ میں درج کروائیں - شکریہ!

[Club Motivation](#)

Facebook @ [cmotivationc](#)

Whatsapp @ 0092 330 4185569

اپنی اخلاقیات کا امتحان لیں - کلب موٹویشن

CLUB MOTIVATION

بھلائی، رہنمائی، حوصلہ افزائی
(CONSULTANCY)

ہم لوگوں کو آگاہی، رہنمائی اور حوصلہ افزائی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔

کلب موٹویشن

[Facebook @ Club Motivation](#)

[YouTube @ Club Motivation](#)